

ROOTWORDS OF SURAH AL BAQARAH 196-202

أَتَمُّ-وَأُ	أُحْصِرَ+تُمْ	أَسْتَيْسَرَ	تَحْلِقُ-وَأُ	رُءُوسَ+كُمُ
ت م م - جمع	ح ص ر + ضمیر	ی س ر	ح ل ق - جمع	ر ا س + ضمیر
پورا کرو	گھیر لیے جاؤ + تم	میسر آجائے	منڈاؤ + تم	سروں کو + اپنے
complete	you are held back	obtained with ease	shave	Your heads

يَبْلُغُ	مَحَلَّ+هُوَ	أَذَى	رَأْسِ+هِ	فَ+فِدْيَةٌ
ب ل غ	ح ل ل + ضمیر	أ ذ ي	ر ا س + ضمیر	ح ر ف + ف د ي
پہنچ جائے	حلال گاہ کو + اپنی	تکلیف ہو	سر سے + اس کے	تو + فدیہ دینا
reaches	its destination	an ailment	His head	then a ransom

نُسْكِ	تَمَتَّعَ	يَجِدْ	سَبْعَةَ	رَجَعَ+تُمْ
ن س ک	م ت ع	و ج د	س ب ع	ر ج ع + ضمیر
قربانی سے	فائدہ اٹھائے	پائے	سات	لوٹو + تم
sacrifice	took advantage	Find	Seven	You return

عَشْرَةٌ	كَامِلَةٌ	أَهْلٌ + هُوَ	رَفَثَ	فُسُوقٌ
ع ش ر	ک م ل	ا ہ ل + ضمیر	ر ف ث	ف س ق
دس	پورے	گھر والے + اس کے	عورتوں کی طرف رغبت کرے۔ کوئی شہواتی فعل کرے	کوئی گناہ کے کام
Ten	In all	His Family	sexual relations	wickedness

جِدَالٌ	تَ + زَوَّدَ - وَا	الزَّادِ	لَيْسَ	جُنَاحٌ
ج د ل	ز و د - جمع	ز و د	ل ی س	ج ن ح
کوئی جھگڑا کرے	تم + زاد راہ لے لیا کرو	زاد راہ	نہیں	کوئی گناہ
quarrelling	take provision	provision	Not is	Any sin

تَ + بَتَّغُ - وَا	أَفْضُ + تُمْ	أَفِيضُ - وَا	أَفَاضَ	قَضَى + تُمْ
ب غ ی - جمع	ف ی ض + ضمیر	ف ی ض - جمع	ف ی ض	ق ض ی + ضمیر
تم + تلاش کرو	تم + پلٹو	تم پلٹو	پلٹتے ہیں	پورے کر چکو + تم
You seek	You depart	depart	depart	you complete[d]

مَنَّاسِكَ + كُمْ	خَلَقِ	وَقِ + نَا	نَصِيبُ	كَسَبُ - وَاْ
ن س ک + ضمیر	خ ل ق	حرف + وق ی + ضمیر	ن ص ب	ک س ب - جمع
مناسک + اپنے - حج کے طریقے	کوئی حصہ	اور + تو بچا + ہم کو	ایک حصہ	انہوں نے کمایا
your acts of worship	any share	And save us	A share	They earned

سَرِيعُ
س ر ع
جلدی لینے والا ہے
swift